

پریس ریلیز

جامعہ اسکولوں کے پری پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول کے اساتذہ کے لئے آن لائن ٹیچنگ پر ورکشاپ آج مکمل

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پری پرائمری اور ابتدائی سطح کے اسکولی اساتذہ کے لئے تین روزہ آن لائن ورکشاپ جو 21 جولائی 2020 کو منعقد ہوئی۔ اس ورکشاپ کا مقصد اساتذہ کو آن لائن طریقہ تدریس اور اس کی باریکیوں سے روشناس کرانا تھا آج بخیر و خوبی اختتام کو پہنچی۔

پروفیسر نجمہ اختر، وائس چانسلر، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا اس وقت تعلیم و تدریس کا عمل ایک غیر معمولی دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تعلیم کے لئے تین چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں ریڈنگ، رائٹنگ اور ارتھ میٹک اور ارتھ میٹک میں جدید تکنالوجی سے آگاہی شامل ہے۔ انہوں نے تعلیم کے لئے تکنالوجی کے استعمال کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا جامعہ ملیہ اسلامیہ اپنے اساتذہ کو اسی سے ہم آہنگ کرنے کے لئے اس طرح کے ورکشاپ کا انعقاد کر رہی ہے۔

پروفیسر اعجاز مسیح، ڈین، فیکلٹی آف ایجوکیشن، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنے افتتاحی خطبے میں موجودہ وقت میں، اساتذہ کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تعلیم ایک نئے دور سے گذر رہی ہے جس میں تکنالوجی کا اہم رول ہے، انہوں نے کہا نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے لئے ضروری ہے کہ تکنالوجی سے خود کو جوڑا جائے اور تعلیم کے لئے اسے کیسے مفید بنایا جائے، اس پر توجہ دی جائے۔

اس ورکشاپ میں آئی اے ایس ای کی فیکلٹی کے ساتھ ہی جامعہ ملیہ سیشنز پروفیسر اندو کمار (سی آئی ای ٹی)، ڈاکٹر راجیش کمار (پرنسپل ڈی آئی ای ٹی، دریا گنج)، پروفیسر انوم پم آہوجا (این سی ای آر ٹی)، پرمود کمار (مشہور پیپٹر) شریک ہوئے۔ اور ڈاکٹر کاظم نقوی (افیشیٹنگ ڈائریکٹر، سی آئی ای ٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ) نے اپنے ذریع خیالات و تجربات سے شرکاء کو روشناس کرایا۔

اس ورکشاپ میں موشومی بوس، ہیڈ مسٹریس، سلون مانتیسوری اسکول، گروگرام اور ان کی ٹیم اور انورادھا ہانڈا، پرنسپل، جی ڈی گوینکا پبلک اسکول، گروگرام اور ان کی ٹیم جو سریشٹی بجاج، ہیڈ مسٹریس، جونیئر ونگ اور شالینی ٹنڈن شریک ہوئے۔ اس ورکشاپ میں دو سرکردہ اسکول "جی ڈی گوینکا پبلک اسکول" اور "سلوان مانتیسوری اسکول" بھی اپنے تجربات ساجھا کئے۔

ورکشاپ میں یونیورسٹی کے زیر انتظام مختلف اسکولوں کے 100 سے زیادہ پری پرائمری اور ایلیمنٹری سطح کے اسکولی اساتذہ نے حصہ لیا۔ اس ورکشاپ کا رابطہ ڈاکٹر سویتا کوشل اور ڈاکٹر ارم خان نے آئی اے ایس ای، فیکلٹی آف ایجوکیشن جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کیا۔

احمد عظیم

پی آر او میڈیا کوآرڈینیٹر